

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے عوامی تعلیم اور آگاہی مہم چلانے کے لیے شراکت داروں کی تلاش میں ہے

برامپٹن، آن (29 جنوری 2020) – آج کمیٹی آف کونسل کی میٹنگ کے دوران، برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن اور پیل ریجن میں گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے عوامی تعلیم اور آگاہی مہم کے فروغ کے لیے پیل ریجنل پولیس، ریجن آف پیل اور کمیونٹی کی تنظیموں کے ساتھ اشتراک کو جاری رکھنے کے لیے ریجنل کونسلر رووینا سینٹوس کی جانب سے پیش کردہ قرار داد کو منظور کر لیا ہے۔

ستمبر 2019 میں برامپٹن سٹی کونسل نے ریجن آف پیل کے ایسے موجودہ پروگراموں کی حمایت اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھنے کی ایک قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا، جو گھریلو تشدد سے متاثرہ لوگوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں، بشمول پیل کمیٹی اگینسٹ وومن ایبوز (PCAWA)، سیف سنٹر آف پیل اور وکٹم سروسز آف پیل۔

پچھلے سال 100 سے زائد رہائشیوں، سٹی کے عملے اور منتخب شدہ حکام نے سٹی ہال میں PCAWA کی جانب سے منعقد کی جانے والی ایک تقریب، ٹیک بیک دی نائٹ (Take Back the Night) میں شرکت کی۔

سٹی آف برامپٹن ریجن آف پیل کی جانب سے چلانے جانے والے کمیونٹی سیفٹی اینڈ ویل بیننگ سسٹم لیڈرشپ ٹیبل میں شرکت کرتا ہے۔ سسٹم لیڈرشپ ٹیبل کی توجہ کا مرکز ایسی حکمت عملیوں کا قیام اور نفاذ ہوتا ہے، جو ریجن آف پیل کے اندر کمیونٹیوں کی حفاظت و بہبود پر منفی طور پر اثر انداز ہونے والے مسائل کی بنیادی وجوہات کو حل کرے۔ اس بڑے گروہ میں ایک فیملی وائلنس ایکشن ٹیبل کو خاندانی تشدد، بشمول گھریلو تشدد، جیسے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے وقف کیا گیا ہے۔

پیل ریجنل پولیس برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے [وسیع اقسام کی معلومات اور مقامی وسائل](#) فراہم کرتی ہے، بشمول: مدد مانگنے کے لیے محفوظ جگہیں، پناہ گاہیں، کمیونٹی کونسلنگ، پروگرام اور معاونتی خدمات، قانونی وسائل اور بچوں اور بزرگ افراد کے لیے معاونت کی بروقت دستیابی۔

5 جنوری 2020 کو کونسل کی جانب سے منظوری کے بعد، سٹی اہم مقامی فریقین، بشمول ریجن آف پیل، پیل ریجنل پولیس اور کمیونٹی کی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرے گا، تاکہ اس مہم کو فروغ دیا جا سکے اور گھریلو تشدد کے خاتمے اور تمام لوگوں کے لیے ایک محفوظ تر شہر بنانے کے لیے کام کیا جا سکے۔

اقتباسات

"گھریلو تشدد کو ختم کرنا برامپٹن سٹی کونسل کے لیے اہم ہے۔ جبکہ کونسل ایک صحت مند اور محفوظ کمیونٹی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، ہم گھریلو تشدد کے متعلق عوامی آگاہی بڑھانے، اطلاع رسانی کی حوصلہ افزائی کرنے اور برامپٹن کے رہائشیوں کے جذباتی اور معاشی استحصال سے لڑنے کے لیے ریجن آف پیل اور پیل ریجنل پولیس میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر کے مزید کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"گھریلو تشدد برامپٹن میں کمیونٹی کی حفاظت کے لیے ایک بڑھتا ہوا خدشہ ہے۔ گھریلو تشدد کے خلاف لڑنے میں ایک شراکت دار کے طور پر، تعلیم اور آگاہی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کلیدی عملی حکمت عملیاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک عوامی آگاہی کی مہم

چلانے کے لیے وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ گھریلو تشدد سے جڑا استحصال اور اموات پریشان کن اور پوری طرح ناجائز ہیں۔ ہم ہر شخص کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں اور آگے پھیلانا چاہتے ہیں کہ انہیں کہاں سے مدد مل سکتی ہے۔"

- رووینا سیٹھوس، چیئر، کمیونٹی سروسز؛ ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5، سٹی آف برامپٹن

"میں سمجھتا ہوں کہ آگاہی پیدا کرنے اور مل کر گھریلو تشدد کی ممکنہ طور پر شکار بننے والی زیادہ خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن کی کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری میں کام کرنا انتہائی اہم ہے۔"

- بلدیو موتا، چیف ایگزیکٹو آفیسر، پنجابی کمیونٹی ہیلتھ سروسز

"ہر شخص کو تشدد سے آزاد زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ہم سب کو اپنی کمیونٹی میں خواتین اور ان کے بچوں کی زندگیوں میں سے تشدد کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔"

- شیرون فلائیڈ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، انٹیرم پلیس

"سٹی آف برامپٹن کے عملے کی جانب سے اس اہم مسئلے کے لیے اپنے عزم کو برقرار رکھنا اور گھریلو تشدد کو ختم کرنے کے لیے اہم مقامی فریقین کے ساتھ اشتراک کرنا جاری ہے۔ جبکہ ہم کمیونٹی اور اپنے علاقائی اور قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں کے ساتھ مل کر عوامی تعلیم اور آگاہی کی اس مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہم کمیونٹی سیفٹی اینڈ ویل بیننگ سسٹم لیڈرشپ ٹیبل کے ذریعے پہلے سے جاری اہم کام کو مزید توسیع دے رہے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca